

پہاڑوں میں آئینے

لب لباب:

حالانکہ پانی زندگی کا سرچشمہ ہے لیکن چنگھائے صوبہ کے قیدام بیسن میں واقع نمکین جھیل میں زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ جھیل کے پانی کی نمکینیت سمندر کے پانی سے زیادہ ہے اس طرح سے جھیل کی سطح پر نمک کی ایک موٹی اور سفید پرت جم جاتی ہے۔ جب موسم خوشگوار ہو تو، چاکا نمکین جھیل میں نیلے آسمان کا عکس، آئینے کی مانند نظر آتا ہے اور اس لئے اس کو چین میں "آسمان کا آئینہ" کہا جاتا ہے۔

جس جگہ چیدام بیسن واقع ہے وہاں سالہا سال پہلے وسیع سمندر ہوا کرتا تھا لیکن تباہی نے اسے اونچا پہاڑ بنا دیا جو بعد میں بیسن میں تشکیل پا گیا۔ جہاں پانی کے منتقل ہونے اور پانی کی کمی کی وجہ سے ایک کے بعد دوسری نمک جھیل وجود میں آتی چلی گئی۔ کھانے والے نمک کے علاوہ بیسن میں قیمتی معدنیات بھی ہیں جس کا استعمال ایٹرو اسپیس ٹیکنالوجی، فوجی معاملات، دوا، وغیرہ کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے قائم بیسن میں، جو حالیہ برسوں میں "وسائل کا قرن کثرہ" کہلاتا ہے، کئی ہائی وے اور جدید طرز کی فیکٹریاں تعمیر کی گئی ہیں۔

حالانکہ جو منگولی لوگ اس الگ تھلگ علاقے میں رہتے ہیں، وہ بھی اس خزانے میں شرکت رکھتے ہیں۔ لیکن وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی خانہ بدوش طرز زندگی کو اپناتے ہیں اور پانی اور گھاس کی تلاش میں نقل و حرکت کرتے ہیں۔ ان کے لئے گھوڑے وہ خزانہ ہیں جو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ، لال اور کالی گوجی بیریز، جو شوریت سے مالا مال اس سرزمین میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے لئے دولت فراہم کرتی ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ اس وسیع علاقے پر رہنے والوں کے لئے، یہ سرزمین وہ خزانہ فراہم کرتی ہے، جو صرف انہیں کے لئے ہے۔

نشریات کی جانکاری:

02-07-2018، پیر، 1830-1900

(ری پیٹ)

06-07-2018، جمعہ، 1330-1355

07-07-2018، سنیچر، 0630-0700